

غلط سوچ Wrong thinking

Proverbs 23. 7 For as a person thinks in his heart, so is he:

امثال 23.7

کیونکہ جیسے اُسکے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے لیکن اُسکا دل تیری طرف نہیں۔

Proverbs 14.12 There is a way which seems right unto a person, but the end thereof are the ways of death.

امثال 14.12

ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اسکی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔

Proverbs 3 5-6 Trust in the Lord with all your heart; and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your paths.

امثال 3.5 اور 6

سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر ۔
اپنی سب راہوں میں اُسکو پہچان اور وہ تیری راہنمائی کریگا ۔

Isaiah 55 4-9 Seek you the Lord while he may be found, call you upon him while he is near: Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts: and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him; and to our God, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts.

یسعیاہ 55 تا 11

دیکھو میں نے اُسے امتوں ک لئے گواہ کیا بلکہ امتوں کا پشوا اور فرما روا۔
دیکھ تو ایک ایسی قوم کو جسے تو نہیں جانتا بلائے گا اور ایک ایسی قوم جو نہیں جانتی تھی۔
خداوند تیرے خدا اور اسرائیل کے قدوس کی خاطر تیرے پاس دوڑی آئے گی کیونکہ اُس نے

تجھے جلال بخشا ہے۔

جب تک خُداوند مل سکتا ہے اس کے طلب ہو۔ جب تک وہ نزدیک ہے اس پکارو۔
شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو اور وہ خُداوند کی طرف پھرے اور وہ
اس پر رحم کرے گا اور ہمارے خدا کی طرف کیونکر وہ کثرت سے معاف کرے گا۔
خُداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں۔
کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اُسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور
میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔

Matthew 16 22-23 Then Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from you, Lord: this shall not be unto you. But he turned, and said unto Peter, Get you behind me, satan: you are an offence unto me: for you savour not the things that be of God, but those that be of men

یتھیو 16-22 تا 23

س پر پطرس اُس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خُداوند خُدا نے کرے۔ یہ تجھ پر
ہرگز نہیں آنے کا۔
اُس نے پھر کر پطرس سے کہا اے شیطان میرے سامنے سے دُور ہو۔ تُو میرے لئے ٹھوکر کا
باعث ہے کیونکہ تُو خُدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔

Colossians 1 20-21 And, having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself; by him, I say, whether they be things in earth, or things in heaven. And you, that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled.

کولسیوں 20.1 اور 21

اور اُس کے خُون کے سبب سے جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اُسی کے وسیلہ
سے اپنے ساتھ میل کر لے۔ خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی۔
اور اُس نے اب اُس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا بھی میل کر لیا۔

Romans 12. 2 be not conformed to this world: but be you transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.

رومیوں 12.2

اور اس جہان کے ہمشکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خُدا کی
نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔

Philippians 2 5-8 Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus: Who, being in the form of God, thought it not a thing to be grasped at to be equal with God: But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men: And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross.

فلیپین 2.5 سے 8

وِیسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔

اُس نے اگرچہ خُدا کی صورت پر تھا خُدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔

بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مُشابہ ہو گیا۔ اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پس کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔